



Bank Alfalah
Islamic

Memorandum for Approval
Process Improvement Committee
BANK ALFALAH LTD.

First Time Debit Card Application

پہلی بار ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست

Date تاریخ

Branch Code

برانچ کوڈ

Branch Name _____

برانچ کا نام

Account Number

اکاؤنٹ نمبر

Account Title _____

اکاؤنٹ ٹائٹل

Card Type:

Classic

Gold

Platinum

Signature Debit

PayPak

Other

کارڈ کی قسم:

کلاسیک

گولڈ

پلاٹینم

سگنچر ڈیبٹ

پے پاک

دیگر

Name to appear on Card (maximum 19 characters and in block letters)

کارڈ پر چھپنے والا نام (زیادہ سے زیادہ 19 حروف اور بڑے حروف میں)

Information about new products/services? Yes No

نئی پروڈکٹس اور سروسز کے بارے میں معلومات

Do you wish to avail Priority Pass Facility for Platinum/Signature Card? Yes No

کیا آپ پلاٹینم / سگنچر ڈیبٹ کارڈ کے لیے پرائیورٹی پاس فیسلیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟

I authorise Bank Alfalah Limited (the 'Bank') to issue an Alfalah Debit Card to me. I acknowledge that the issue and usage of the Card is governed by the Terms and Conditions applicable from time to time, which I have read and understood and hereby agree to be bound by the same, if the Bank accepts my application and issues to me the applied for Alfalah Debit Card. I accept that the Terms and Conditions are liable to be amended by Bank Alfalah Limited from time to time, and I shall be bound by all such amendments made and notified to me by the Bank making the same available at its website: www.bankalfalah.com. The joining fee for Alfalah Debit Card Priority Pass (as per prevailing Schedule of Bank Charges) and any lounge visit will be charged to and debited from my Bank Account (the 'Account') linked with the said Alfalah Debit Card. The detail of charges for worldwide lounge visit will be provided with the Priority Pass Card. I further unconditionally and irrevocably authorise Bank Alfalah Limited to debit the Account from time to time with any amounts equivalent to any fees and charges for use of the Alfalah Debit Card that are liable to be paid by me from time to time. Card issuance/renewal fee shall be recovered by the Bank as per prevailing Schedule of Bank Charges from the said Account.

Disclaimer:

I do hereby declare that all the information provided to the Bank is true and correct. I also undertake that in case the above information is found to be false/untrue/misleading or misrepresenting the actual position, I will be held responsible and liable for the same.

میں بینک الفلاح لمیٹڈ ('بینک') کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ مجھے الفلاح ڈیبٹ کارڈ جاری کرے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ کارڈ کا اجراء اور استعمال وقتاً فوقتاً قابل اطلاق شرائط و ضوابط کے تحت کیا گیا ہے جو کہ میں نے پڑھا۔ سمجھا اور قبول کر لیا ہے اور اگر بینک میری درخواست قبول کرتا ہے اور مجھے کارڈ جاری کرتا ہے تو میں ان شرائط و ضوابط کا پابند رہوں گا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ ان شرائط و ضوابط میں بینک الفلاح کی طرف سے وقتاً فوقتاً ترامیم کی جائیں گی اور میں ان تمام ترامیم کا پابند رہوں گا جو بینک الفلاح کی طرف سے مجھے بتائی جائیں گی اور بینک کی ویب سائٹ www.bankalfalah.com پر لگائی جائیں گی۔ الفلاح ڈیبٹ کارڈ پرائیورٹی پاس کے لیے جوائننگ فیس (مروجہ شیڈول آف چارجز کے مطابق) اور کسی بھی لائونج وزٹ کے چارجز میرے الفلاح ڈیبٹ کارڈ سے منسلک بینک اکاؤنٹ ('اکاؤنٹ') سے منہا کئے جائیں گے۔ دنیا بھر میں کئے گئے لائونج وزٹ کے چارجز کی تفصیل پرائیورٹی پاس کارڈ کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔ میں مزید مشروط طور پر اور غیر تصحیحی طور پر بینک الفلاح لمیٹڈ کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ میرے الفلاح ڈیبٹ کارڈ کے استعمال سے وقتاً فوقتاً عائد ہونے والے چارجز اور فیس کے مساوی رقم جو مجھ پر واجب الادا ہیں وہ میرے اکاؤنٹ سے وقتاً فوقتاً منہا کر لے۔ کارڈ کے اجراء / تجدید کی فیس مذکورہ اکاؤنٹ سے بینک مروجہ شیڈول آف چارجز کے مطابق وصول کرے گا۔

انتباہ:

میں اقرار کرتا ہوں کہ بینک کو فراہم کردہ تمام معلومات سچ اور درست ہیں۔ میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ اگر مذکورہ بالا معلومات جھوٹی / غیر درست / غلط ثابت ہوتی ہیں تو اس کے لیے صرف میں ذمہ دار رہوں گا۔

Date تاریخ

Company Stamp
(In case of Sole Proprietor)

کھیتی کی مہر
(سول پروپر ایٹرز کی صورت میں)

Customer's Signature
(Signature Verification along with
SV stamp required)

صارف کے دستخط
(دستخط کی تصدیق بمع مطلوبہ ایس وی مہر)

For Branch Use only

Certified that the above mentioned particulars have been verified from the Core Banking Application/information provided by customer in Account Opening Form.

تصدیق کی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا تفصیلات کی تصدیق مرکزی بینکنگ درخواست / معلومات کے ذریعے کر لی گئی ہے جو کہ صارف کی طرف سے اکاؤنٹ کھولنے کے فارم میں فراہم کی گئی ہیں۔

Particulars verified by

تفصیلات کا تصدیق کنندہ

Branch Operations Manager

برانچ آپریشنز منیجر

For Back Office Use Only

صرف بیک آفس کے استعمال کے لیے

Prescreened by _____

جانچ پڑتال کرنے والا

System checked by _____

سسٹم کی جانچ پڑتال کرنے والا

PAN Number _____

پان نمبر

Data entered by _____

معلومات داخل کرنے والا

Cross checked by _____

دوبارہ جانچ پڑتال کرنے والا

Memorandum for Approval
Process Improvement Committee
BANK ALFALAH LTD.



Debit Card Replacement Request Form
متبادل ڈیٹ کارتڈ کے لیے درخواست

Date تاریخ

Branch Code

Branch Name Account Number

Account Title

Existing Card Number (Please mention only first six and last four digits)
موجودہ کارتڈ نمبر

Reason for Replacement: Damaged Lost Stolen Other
مقابلہ کارتڈ بنوانے کی وجہ: تباہ ہو گیا کھو گیا چوری ہو گیا دیگر

Card Upgrade/Downgrade? Yes No
کارتڈ اپ گریڈ / ڈاؤن گریڈ

Card Type Requested: Classic Gold Platinum Signature Debit PayPak Other
درخواست کردہ کارتڈ کی قسم کلاسیک گولڈ پلاٹینم سگنچر ڈیٹ پی پاک دیگر

Name to appear on Card (maximum 19 characters and in block letters)

I authorise Bank Alfalah Limited (the 'Bank') to issue an Alfalah Debit Card to me. I acknowledge that the issue and usage of the Card is governed by the Terms and Conditions applicable from time to time, which I have read and understood, and agree to be bound by the same if the Bank accepts my application and issues to me the applied for Alfalah Debit Card. I accept that the Terms and Conditions are liable to be amended by Bank Alfalah Limited from time to time, and I shall be bound by all such amendments made and notified to me by the Bank making the same available at its website: www.bankalfalah.com. I understand that upon issuance of new/replaced Alfalah Debit Card to me, the existing Debit Card linked to my account will be deactivated. The joining fee for Alfalah Debit Card Priority Pass (as per prevailing Schedule of Bank Charges) and any lounge visit will be charged to and debited from my Bank Account (the 'Account') linked with the said Alfalah Debit Card. The detail of charges for worldwide lounge visit will be provided with the Priority Pass Card. I further unconditionally and irrevocably authorise Bank Alfalah Limited to debit the Account from time to time with any amounts equivalent to any fees and charges for use of the Alfalah Debit Card that are liable to be paid by me from time to time. Card issuance/renewal fee shall be recovered by the Bank as per prevailing Schedule of Bank Charges from my said Account. Further I authorise Bank Alfalah to refuse my Alfalah Debit Card Application, if Bank Alfalah is unable to process charges by debiting my Account due to the Account having insufficient funds.

Disclaimer:
I do hereby declare that the information provided is true and correct. I also undertake that in case of the above information is found to be false/untrue/misleading/misrepresenting, I will be held responsible for it.
میں بینک الفلاح لمیٹڈ ('بینک') کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ مجھے الفلاح ڈیٹ کارتڈ جاری کرے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ کارتڈ کا اجراء اور استعمال وقتاً فوقتاً قابل اطلاق شرائط و ضوابط کے تحت کیا گیا ہے جو کہ میں نے پڑھا، سمجھا اور قبول کر لیا ہے اور اگر بینک میری درخواست قبول کرتا ہے اور مجھے کارتڈ جاری کرتا ہے تو میں ان شرائط و ضوابط کا پابند رہوں گا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ ان شرائط و ضوابط میں بینک الفلاح کی طرف سے وقتاً فوقتاً ترامیم کی جائیں گی اور میں ان تمام ترامیم کا پابند رہوں گا جو بینک الفلاح کی طرف سے مجھے بتائی جائیں گی اور بینک کی ویب سائٹ www.bankalfalah.com پر لگائی جائیں گی۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ مجھے نیا کارتڈ / متبادل الفلاح ڈیٹ کارتڈ جاری کرنے پر میرے اکاؤنٹ سے منسلک موجودہ ڈیٹ کارتڈ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا۔ الفلاح ڈیٹ کارتڈ پر انٹرنیٹ پر پاس کے لیے جوائننگ فیس (مروجہ شیڈول آف چارجز کے مطابق) اور کسی بھی لاؤنج وزٹ کے چارجز میرے الفلاح ڈیٹ کارتڈ سے منسلک بینک اکاؤنٹ ("اکاؤنٹ") سے منہا کیے جائیں گے۔ دنیا بھر میں کئی دنوں کے لاؤنج وزٹ کے چارجز کی تفصیل پروفیورٹی پاس کارتڈ کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔ میں مزید غیر مشروط طور پر اور بغیر تنسیخی طور پر بینک الفلاح لمیٹڈ کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ میرے الفلاح ڈیٹ کارتڈ کے استعمال سے وقتاً فوقتاً عائد ہونے والے چارجز اور فیس کے مساوی رقم جو مجھ پر واجب الانا ہیں، وہ میرے اکاؤنٹ سے وقتاً فوقتاً منہا کر لے۔ کارتڈ کے اجراء/تجدید کی فیس مذکورہ اکاؤنٹ سے بینک مروجہ شیڈول آف چارجز کے مطابق وصول کرے گا۔ مزید یہ کہ، میں بینک الفلاح کو اختیار دیتا ہوں کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں ناکافی رقم کی وجہ سے بینک اپنے چارجز وصول نہ کر سکے تو وہ میری الفلاح ڈیٹ کارتڈ کی درخواست کو مسترد کرے۔

انتہا: میں اقرار کرتا ہوں کہ بینک کو فراہم کردہ تمام معلومات سچ اور درست ہیں۔ میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ اگر مذکورہ بالا معلومات جھوٹی/غیر درست / غلط ثابت ہوتی ہیں تو اس کے لیے صرف میں ذمہ دار رہوں گا۔

Date تاریخ

Company Stamp
(In case of Sole Proprietor)
کامپنی کی مہر
(مسلوب پروپرائیٹری صورت میں)

Customer's Signature
(Signature Verification along with SV stamp required)
صارف کے دستخط
(دستخط کی تصدیق بمع مطلوبہ ایس وی مہر)

For Branch Use only

Certified that the above mentioned particulars have been verified from the Core Banking Application/information provided by customer in Account Opening Form.
تصدیق کی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا تفصیلات کی تصدیق مرکزی بینکنگ درخواست / معلومات کے ذریعے کر لی گئی ہے جو کہ صارف کی طرف سے اکاؤنٹ کھولنے کے فارم میں فراہم کی گئی ہیں۔

Particulars verified by
تفصیلات کا تصدیق کنندہ

Branch Operations Manager
برانچ آپریشنز منیجر

For Card Centre Use Only

Prescreened by System checked by
جانچ پڑتال کرنے والا مسلیم کی جانچ پڑتال کرنے والا

PAN Number Data entered by Cross checked by
پان نمبر معلومات داخل کرنے والا دوبارہ جانچ پڑتال کرنے والا

**Memorandum for Approval
Process Improvement Committee
BANK ALFALAH LTD.**



**Debit Card Demographic and
Information Update Form**

Date تاریخ

ڈیبٹ کارڈ سے متعلق اعداد و شمار اور
معلومات کے لیے اپ ڈیٹ فارم

Branch Code
برانچ کوڈ

Branch Name Account Number
برانچ کا نام اکاؤنٹ نمبر

Account Title

Existing Card Number (Please mention only first six and last four digits)
موجودہ کارڈ نمبر (برائے سہ ماہی صرف پہلے چھ اور آخری چار ہنسنے لکھیں)

Information to be updated (Please mark where change required)

اپ ڈیٹ کی جانے والی معلومات (برائے سہ ماہی، جہاں تبدیلی مطلوب ہو وہاں کا نشان لگائیں)

Customer Name
صارف کا نام

ID Number (CNIC/SNIC/NICOP/POC/Passport)
(سی این اے سی / این این اے سی / نائیکوپ / پی او سی / پاسپورٹ) اے ڈی نمبر

Residential Address
رہائشی پتہ

Nearest Landmark
قریبی مشہور عمارت

Phone No. with area code (Res) Phone No. with area code (Off)
(فون نمبر مع علاقے کا کوڈ (رہائشی)) (فون نمبر مع علاقے کا کوڈ (دفتر))

Company Name Department Name
کمپنی کا نام ڈیپارٹمنٹ کا نام

Office Address
دفتر کا پتہ

Nearest Landmark Email ID
قریبی مشہور عمارت ای میل اے ڈی

Correspondence Address: Residential Office
خط و کتابت کا پتہ رہائشی دفتر

Below mentioned Account/s to be linked/de-linked with the Debit Card. مندرجہ ذیل اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کو ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ منسلک (غیر منسلک) کیا جائے

Branch Code	Branch Name	Account Number	Account Type	Link or De-link	Applicant's Instruction (Residential/Commercial/Industrial/Professional/Trustee/Executor/Successor/Sole Proprietor)	Link by name	Default A/C No.

Disclaimer:
I do hereby declare that the information provided is true and correct. I also undertake that in case of the above information is found to be false/untrue/misleading/misrepresenting, I will be held responsible for it.
انتہاد
میں اقرار کرتا ہوں کہ ہینک کو فراہم کردہ تمام معلومات سچ اور درست ہیں۔ میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ اگر مذکورہ بالا معلومات جھوٹی / غیر درست / غلط ثابت ہوتی ہیں تو اس کے لیے صرف میں ذمہ دار رہوں گا۔

Date تاریخ

Company Stamp
(In case of Sole Proprietor)
کمپنی کی مہر
(سول پروزپرائیٹری صورت میں)

Customer's Signature
(Signature Verification along with SV stamp required)
صارف کے دستخط
(دستخط کی تصدیق بمع مطلوبہ ایس وی مہر)

For Branch Use only صارف برانچ کے استعمال کے لیے

Certified that the above mentioned particulars have been verified from the Core Banking Application/information provided by customer in Account Opening Form. Further, all supporting documents/evidences (as mentioned in Operation Manual) are attached.
تصدیق کی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا تفصیلات کی تصدیق مرکزی ہینکنگ درخواست / معلومات کے ذریعے کر لی گئی ہے جو کہ صارف کی طرف سے اکاؤنٹ کھولنے کے فارم میں فراہم کی گئی ہیں۔ مزید یہ کہ تمام ضروری دستاویزات / ثبوت منسلک ہیں (جیسا کہ آپریشن مینوئل میں بتایا گیا ہے)۔

Particulars verified by
تفصیلات کا تصدیق کنندہ

Branch Operations Manager
برانچ آپریشنز مینیجر

For Card Centre Use Only صارف کارڈ سینٹر کے استعمال کے لیے

Prescreened by System checked by
جانچ پڑتال کرنے والا سسٹم کی جانچ پڑتال کرنے والا

PAN Number Data entered by Cross checked by
یے این نمبر معلومات داخل کرنے والا دوبارہ جانچ پڑتال کرنے والا